

21 جنوری 2019

برامپٹن کو عالمی سطح پر شہریوں پر مرکوز ایک اسمارٹ سٹی کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے

برامپٹن، آن - شہر کے اقدامات اور کاروائیوں میں مسلسل بہتری کے ذریعے اپنے شہریوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے کاپاپٹ پروجیکٹس کی بنیاد پر سٹی آف برامپٹن کو دو [اسمارٹ 50 ایوارڈز](#) سے نوازا گیا۔

2017 میں شروع ہونے والے برامپٹن کے یہ دو پروجیکٹس ٹیکنالوجی، کارکردگی کی پیمائش اور سروس سے مطمئن ہونے کے عمل کو آپس میں جوڑتے ہیں:

- **آٹومیٹک ویکل مانیٹرنگ (AVM)** سسٹم برامپٹن ٹرانزٹ کو گاڑیوں کی حالت کی نگرانی کرنے کے قابل بناتا ہے تاکہ سٹی کے بس فلیٹ کی بھروسہ مندی اور اچھی مرمت شدہ حالت کو بہتر بنایا جا سکے۔ یہ سسٹم سروس کی بھروسہ مندی کو بہتر کرتا ہے جبکہ ساتھ ہی میکانیاتی مسائل سے بچا کر اور غیر متوقع ہنگامی مسائل کو کم کر کے سواریوں کا تجربہ بہتر بناتا ہے۔
- **آٹومیٹک ویکل لوکیٹر (AVL)** سسٹم سٹی کی دیگر تمام گاڑیوں (صرف بسیں یا فائر ٹرکس نہیں) کے لیے مخصوص ہے، جو گاڑیوں کی حرکت کی نگرانی کرتا ہے اور ماحولیاتی ڈیٹا جمع کرتا ہے تاکہ خدمات کی فراہمی، بشمول سردیوں میں کام اور ضمنی قوانین کے نفاذ کو بہتر بنایا جا سکے۔

اسمارٹ سٹیز کنیکٹ، اسمارٹ سٹیز کنیکٹ فاؤنڈیشن اور US اگنائیٹ کے ساتھ شراکت داری میں، اسمارٹ 50 ایوارڈ سالانہ طور پر سب سے زیادہ جدت پسند اور بااثر کام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے عالمی طور پر اسمارٹ سٹیز پراجیکٹس کو پہچان بخشتی ہے۔

برامپٹن 2040 ویژن کے "ٹیکنالوجی" کے عدسے کی رہنمائی میں، سٹی کی ڈیجیٹل انویشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈویژن نے ایک اسمارٹ سٹیز یونٹ بنائی ہے۔ ایک حکمت عملی اور فریم ورک کی تیاری کے ہدف کے ساتھ، یہ متحرک ٹیم سٹی کو برامپٹن پر ٹیکنالوجی کے اثر کی کمان سنبھالنے کے قابل بنا رہی ہے۔ شہروں کی تخلیق کے روایتی عمل کو للکار کر، اسمارٹ سٹی حکمت عملی کمیونٹی اور نجی و سرکاری شعبوں کے درمیان اشتراک کے لیے مشترکہ ذمہ داری اور مواقع پیدا کرتی ہے۔

اقتباسات

"اسمارٹ سٹی ٹیکنالوجی برامپٹن جیسے بڑے شہری ماحول والے شہروں کو اپنے شہریوں کے لیے مسائل کے حل تیار کرنے میں مدد دیتی ہے۔ سردیوں کے حالیہ واقعات کے دوران AVL سسٹم کا استعمال عملے کو کسی طوفان کے دوران سٹی کی کاروائی کو مؤثر طور پر منتظم کرنے کے قابل بناتا ہے - یہ ہمیں اس بات کا تعین کرنے میں مدد دیتا ہے کہ کون سے علاقوں کو سروس کی ضرورت ہے، سروس کی قسم اور ترجیح کیا ہے اور سروس فراہم کرنے کے لیے کون سی گاڑیوں کی ضرورت ہے۔ یہ ایک دوسرا طریقہ ہے جس سے ہم برامپٹن کو بحفاظت طریقے سے آگے بڑھانے کے قابل ہیں۔"

- میئر پیٹرک براؤن

"خدمات کی فراہمی میں برامپٹن کا طریقہ کار کمیونٹی کے ساتھ تعامل اور مسلسل بہتری کے ایک عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ایوارڈز ہمارے شہریوں کی متنوع ضروریات کو شکل دینے، معاونت فراہم کرنے اور منتظم کرنے کے لیے اسمارٹ سٹی سولوشنز پر ہماری توجہ کو ظاہر کرتے ہیں۔"

- جوزف پٹاری، قائم مقام CAO/کارپوریٹ سروسز کمشنر

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریٹور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca